



بلاشبہ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے، جو خالص اسی کے لیے اور اس کی رضامندی کے حصول میں کیا جائے ہے

ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتا ہے: ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا: ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جو حجہاد میں اجر اور شہرت کی طلب میں شریک ہوتا ہے؟ اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: "اسے کچھ نہیں ملے گا" اس نے اپنا سوال تین بار دوہرایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار یہی کہا کہ "اسے کچھ نہیں ملے گا" پھر فرمایا: "بلاشبہ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے، جو خالص اسی کے لیے اور اس کی رضامندی کے حصول میں کیا جائے ہے"

[صحیح] [اسے نسائی نے روایت کیا ہے]

ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آدمی کا حکم پوچھنے آیا، جو حجہاد میں اللہ سے اجر و ثواب اور لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے شریک ہوتا ہے وہ جانتا چاہتا تھا کہ ایسے شخص کو اجر و ثواب ملے گا یا نہیں؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب یہ دیا کہ اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا کیون کہ اس نے اپنی نیت میں غیراللہ کو شریک کر لیا اس شخص نے اپنا یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین بار رکھا اور آپ نے اس بار یہی جواب دیا کہ اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں کسی عمل کے قبول ہونے کا ایک قاعدہ بیان فرما دیا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے، جس پورے طور پر اللہ کے لیے اور اس کی خوش نوی کے حصول کی خاطر کیا جائے اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65107>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

